

JS CREDIT CARDS KEY FACT STATEMENT

جے ایس کریڈٹ کارڈز - اہم معلومات اور وضاحت

The information contained in this statement summarizes key features of credit card and is not intended to replace any Terms & Conditions and prevailing Schedule of Charges of the JS Credit Card. It is very important that customer should carefully read the complete Terms & Conditions and prevailing Schedule of Charges before agreeing to this information and signing.

نیچے دی گئی معلومات جے ایس کریڈٹ کارڈ کی اہم خصوصیات کا خلاصہ پیش کرتی ہیں۔ تاہم ان کا مقصد جے ایس کریڈٹ کارڈ کی شرائط و ضوابط اور موجودہ شیڈول آف چارجز کا متبادل فراہم کرنا نہیں ہے۔ ہر ایک صارف کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان معلومات سے متفق ہونے اور دستخط کرنے سے قبل جے ایس کریڈٹ کارڈ کی مکمل شرائط و ضوابط اور موجودہ شیڈول آف چارجز کو بغور پڑھ اور سمجھ لے۔

Information معلومات		وضاحت Explanation	
Joining Fee شمولیت کی فیس		No Card Issuance or Joining Fee کارڈ کے اجراء یا شمولیت کی کوئی فیس نہیں ہے۔	
Annual Fee Basic Cards بیسک کارڈز کی سالانہ فیس	Classic: Rs. 5,000/- (Reduced fee of Rs. 1,200/- will be charged on spending of Rs. 25,000/- within 1 month of card activation)	کلاسک: 5,000 روپے (تاہم اگر کارڈ فعال ہونے کے ایک ماہ کے اندر 25,000 روپے خرچ / استعمال میں لائے جائیں تو رعایتی سالانہ فیس 1,200 روپے وصول کی جائے گی۔)	
	Gold: Rs. 8,500/- (Reduced fee of Rs. 1,800/- will be charged on spending of Rs. 50,000/- within 1 month of card activation)	گولڈ: 8,500 روپے (تاہم اگر کارڈ فعال ہونے کے ایک ماہ کے اندر 50,000 روپے خرچ / استعمال میں لائے جائیں تو رعایتی سالانہ فیس 1,800 روپے وصول کی جائے گی۔)	
Annual Fee Supplementary Cards سالانہ فیس برائے سپلیمنٹری کارڈز	Platinum: Rs. 15,000/- (Reduced fee of Rs. 3,100/- will be charged on spending of Rs. 100,000/- within 1 month of card activation)	پلاٹینم: 15,000 روپے (تاہم اگر کارڈ فعال ہونے کے ایک ماہ کے اندر 100,000 روپے خرچ / استعمال میں لائے جائیں تو رعایتی سالانہ فیس 3,100 روپے وصول کی جائے گی۔)	
	Signature: Rs. 20,000/- (Reduced fee of Rs. 7,700/- will be charged on spending of Rs. 150,000/- within one month of card activation).	سگنچر: 20,000 روپے (تاہم اگر کارڈ فعال ہونے کے ایک ماہ کے اندر 150,000 روپے خرچ / استعمال میں لائے جائیں تو رعایتی سالانہ فیس 7,700 روپے وصول کی جائے گی۔)	
The Annual fee is applicable from first year onwards, and can be reversed as per above criteria. Once customer has completed the required retail spending, they may get their annual fee reversed by calling the call center. For Employee Banking Customers, the first-year annual fee is reversed without any spending criteria, subject to the card activation and first month salary credited to the JS Bank account, within the first three months of card issuance.		سالانہ فیس پہلے سال سے ہی لاگو ہوگی، تاہم مذکورہ بالا معیار پر پورا اترنے کی صورت میں یہ فیس واپس کر دی جائے گی۔ مطلوبہ رٹیل خریداری مکمل کرنے کے بعد صارف کال سینٹر پر رابطہ کر کے اپنی سالانہ فیس واپس (Reverse) کروا سکتا ہے۔ ایمپلائی بینکنگ صارفین کے لیے پہلے سال کی سالانہ فیس بغیر کسی خریداری کی شرط کے واپس (Reverse) کر دی جائے گی، بشرطیکہ کارڈ فعال کر لیا گیا ہو اور کارڈ کے اجراء کے بعد پہلے تین ماہ کے اندر پہلے ماہ کی تنخواہ جے ایس بینک اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائے۔	
Fixed Annualized % Rate (APR) مقررہ سالانہ شرح منافع (APR)	Classic: Rs. 2,000/- (Reduced fee of Rs. 1,000/- will be charged on spending of Rs. 25,000/- within 1 month of card activation)	کلاسک: 2,000 روپے (تاہم اگر کارڈ فعال ہونے کے ایک ماہ کے اندر 25,000 روپے کی خریداری کی جائے تو رعایتی فیس 1,000 روپے وصول کی جائے گی۔)	
	Gold: Rs. 3,500/- (Reduced fee of Rs. 1,500/- will be charged on spending of Rs. 50,000/- within 1 month of card activation)	گولڈ: 3,500 روپے (تاہم اگر کارڈ فعال ہونے کے ایک ماہ کے اندر 50,000 روپے کی خریداری کی جائے تو رعایتی فیس 1,500 روپے وصول کی جائے گی۔)	
Interest Rates شرح سود	Platinum: Rs. 6,500/- (Reduced fee of Rs. 2,700/- will be charged on spending of Rs. 100,000/- within 1 month of card activation)	پلاٹینم: 6,500 روپے (تاہم اگر کارڈ فعال ہونے کے ایک ماہ کے اندر 100,000 روپے کی خریداری کی جائے تو رعایتی فیس 2,700 روپے وصول کی جائے گی۔)	
	Signature: Rs. 8,000/- (Reduced fee of Rs. 7,200/- will be charged on spending of Rs. 150,000/- within 1 month of card activation)	سگنچر: 8,000 روپے (تاہم اگر کارڈ فعال ہونے کے ایک ماہ کے اندر 150,000 روپے کی خریداری کی جائے تو رعایتی فیس 7,200 روپے وصول کی جائے گی۔)	
49.99% on retail, 48% on cash advance 36% on Balance Transfer Facility and Cash on Call		49.99% ریٹیل خریداری پر، 48% کیش ایڈوانس پر 36% بیلنس ٹرانسفر سہولت اور کاش آن کال پر	
Purchase Type خریداری کی قسم		Monthly Rate ماہانہ ریٹ	Annual Rate سالانہ ریٹ
Retail Purchasing رٹیل خرید		4.16%	49.99%
Cash Advance کیش ایڈوانس		4%	48%
Balance Transfer Facility بیلنس ٹرانسفر سہولت		Up to 3%	Up to 36%
JS Installment Plan جے ایس انسٹالمنٹ پلان		-	12m(32%), 24m(34%), 36m(36%)
Cash on Installment کیش آن انسٹالمنٹ		-	12m(40%), 24m(42%), 36m(44%)

Information معلومات	Explanation وضاحت										
Interest Free Period سود سے پاک مدت	Up to 51 interest-free days for retail transactions, provided customer clears his/her full outstanding balance before due date. رٹیل خریداری پر زیادہ سے زیادہ 51 دن تک بلا سود مدت دستیاب ہوگی، بشرطیکہ صارف مقررہ تاریخ تک اپنی تمام واجب الادا رقم مکمل طور پر ادا کر دے۔										
Interest Charging Information سود لاگو ہونے کی تفصیلات	Retail Transactions: If the card member pays the minimum amount or any amount less than the statement billed balance by the payment due date, then for the transactions that are covered by the payment, Service charges are charged from transaction date to the payment posting date. For the transactions that are not covered by the payment, service charges are charged from the transaction date to the date of next statement of credit card. Cash Advance & Balance Transfer Facility: Service charges are calculated from the day of transaction till complete billed amount is settled. Installment Plan: Service charges are applied in the EMI as per the chosen plan. رٹیل ٹرانزیکشن: اگر کارڈ ہولڈر مقررہ تاریخ تک اسٹیٹمنٹ میں درج مکمل واجب الادا رقم کے بجائے صرف کم از کم واجب الادا رقم یا اس سے کم کوئی رقم ادا کرتا ہے، تو ادائیگی میں شامل ٹرانزیکشنز پر سروس چارجز ٹرانزیکشن کی تاریخ سے ادائیگی کی اندراج (Posting) کی تاریخ تک لاگو ہوں گے۔ جب کہ ادائیگی میں شامل نہ ہونے والی ٹرانزیکشنز پر سروس چارجز ٹرانزیکشن کی تاریخ سے اگلے کریڈٹ کارڈ اسٹیٹمنٹ کی تاریخ تک لاگو ہوں گے۔ کیش ایڈوانس اور بیلنس ٹرانسفر سہولت: سروس چارجز کا اطلاق ٹرانزیکشن کی تاریخ سے مکمل واجب الادا رقم کی ادائیگی تک کیا جائے گا۔ انسٹالمنٹ پلان: منتخب کردہ (EMI) منصوبے کے مطابق ماہانہ قسط میں سروس چارجز شامل ہوں گے۔										
Payments پے منٹ	If the balance is not paid-off in full, payments received are applied as per the below sequence: 1. Fee & Charges (Annual Fee, Overlimit Fee, FED, Late Fee etc.) 2. Installment (Principal & Interest) 3. Cash (Principal & Interest) 4. Retail Purchase (Principal & Interest) 5. Misc Debit 6. Balance Transfer اگر واجب الادا رقم مکمل طور پر ادا نہ کی جائے تو موصول ہونے والی ادائیگی درج ذیل ترتیب کے مطابق ایڈجسٹ کی جائے گی: 1. فیس اور چارجز (سالانہ فیس، اوور لیمٹ فیس، فیڈرل ایکسٹرا ڈیوٹی (FED)، تاخیر سے ادائیگی کی فیس وغیرہ) 2. اقساط (اصل رقم اور منافع) 3. کیش (اصل رقم اور منافع) 4. رٹیل خریداری (اصل رقم اور منافع) 5. متنفرق ڈیبٹ 6. بیلنس ٹرانسفر										
Minimum Monthly Repayments کم سے کم سالانہ ری پیمنٹس	{Principal Retail * 5% + Cash Advance * 5% + Installment amount (if any) + Billed Fee * 5% + Billed Markup * 5% + Over Limit amount (if any) + Last month unpaid minimum payment (if any)} OR Rs.500/- whichever is higher. اصل رقم $\times 5\%$ + کیش ایڈوانس کی اصل رقم $\times 5\%$ + اقساط کی رقم (اگر کوئی ہو) + بل شدہ فیس $\times 5\%$ + بل شدہ منافع $\times 5\%$ + اوور لیمٹ رقم (اگر کوئی ہو) + گزشتہ ماہ کی کم از کم واجب الادا غیر ادا شدہ رقم، اگر کوئی ہو (یا 500 روپے، ان دونوں میں سے جو بھی زیادہ ہو۔)										
Cash Withdrawal Limit کیش نکالنے کی حد	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Card Type کارڈ کی قسم</th><th>Cash Withdrawal Limit کیش نکالنے کی حد</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Classic کلاسیک</td><td>50% - 75% of your available limit دستیاب کریڈٹ حد کا 50% تا 75%</td></tr> <tr> <td>Gold گولڈ</td><td>50% - 75% of your available limit دستیاب کریڈٹ حد کا 50% تا 75%</td></tr> <tr> <td>Platinum پلائنیم</td><td>50% - 75% of your available limit دستیاب کریڈٹ حد کا 50% تا 75%</td></tr> <tr> <td>Signature سگنچر</td><td>50% - 75% of your available limit دستیاب کریڈٹ حد کا 50% تا 75%</td></tr> </tbody> </table>	Card Type کارڈ کی قسم	Cash Withdrawal Limit کیش نکالنے کی حد	Classic کلاسیک	50% - 75% of your available limit دستیاب کریڈٹ حد کا 50% تا 75%	Gold گولڈ	50% - 75% of your available limit دستیاب کریڈٹ حد کا 50% تا 75%	Platinum پلائنیم	50% - 75% of your available limit دستیاب کریڈٹ حد کا 50% تا 75%	Signature سگنچر	50% - 75% of your available limit دستیاب کریڈٹ حد کا 50% تا 75%
Card Type کارڈ کی قسم	Cash Withdrawal Limit کیش نکالنے کی حد										
Classic کلاسیک	50% - 75% of your available limit دستیاب کریڈٹ حد کا 50% تا 75%										
Gold گولڈ	50% - 75% of your available limit دستیاب کریڈٹ حد کا 50% تا 75%										
Platinum پلائنیم	50% - 75% of your available limit دستیاب کریڈٹ حد کا 50% تا 75%										
Signature سگنچر	50% - 75% of your available limit دستیاب کریڈٹ حد کا 50% تا 75%										

Information معلومات	Explanation وضاحت																																				
	آپ کے کریڈٹ کارڈ پر درج ذیل چارجز لاگو ہوں گے: The following charges will apply to your credit cards: <table> <tr> <th>Charge Type چارج کی نوعیت</th><th>Charge Amount چارج کی جانے والی رقم</th></tr> <tr> <td>Cash Advance Fee (per transaction) ہر ٹرانزیکشن پر کیش ایڈوانس فیس</td><td>3.5% or Rs. 1,800/- whichever is higher 1,800/- روپے یا 3.5% ان دونوں میں سے جو بھی زیادہ ہو۔</td></tr> <tr> <td>BTF/Cash on Call Processing Fee بیلنس ٹرانسفر سہولت / کیش آن کال پر وسینگ فیس</td><td>Rs. 1,000/- per transfer ہر ٹرانسفر پر 1000 روپے</td></tr> <tr> <td>International ATM/POS Transaction بین الاقوامی ایسے ٹی ایم / پی او ایس ٹرانزیکشن</td><td>Rs. 450/- or 5%, whichever is higher 450 روپے یا 5% ان دونوں میں سے جو بھی زیادہ ہو۔</td></tr> <tr> <td>SMS Alert Charges ایس ایم ایس الارٹ چارجز</td><td>Rs. 100/- per month 100 روپے ماہانہ</td></tr> <tr> <td>Over Limit Fee اوور لمٹ فیس</td><td>Rs. 1,500/- 1500 روپے</td></tr> <tr> <td>Cash Payment Fee کیش پیمنٹ فیس</td><td>Nil کوئی نہیں</td></tr> <tr> <td>Document Retrieval Charges دستاویز کی بازیابی کے چارجز</td><td>Local – Rs. 300/- International – Rs. 850/- مقامی: 300 روپے، بین الاقوامی: 850 روپے</td></tr> <tr> <td>Card Replacement Fee کارڈ تبدیلی کی فیس</td><td>Classic - Rs. 1,200/- Gold - Rs. 1,500/- Platinum - Rs. 2,000/- Signature - Rs. 4,000/- کلاسک: 1,200 روپے گولڈ: 1,500 روپے پلاٹینم: 2,000 روپے سگنچر: 4,000 روپے</td></tr> <tr> <td>VISA Arbitration Charges for Disputed Transactions متنازع ٹرانزیکشنز کے لیے ویزائٹیشن (Arbitration) کے چارجز</td><td>USD 500/- 500 امریکی ڈالر</td></tr> <tr> <td>Litigation Charges قانونی کارروائی کے چارجز</td><td>At Actual اصل چارجز</td></tr> <tr> <td>Credit Protector کریڈٹ پروٹیکٹر</td><td>0.58% of monthly outstanding balance (Optional) ماہانہ واجب الادا بقایا رقم کا 0.58% (اختیاری)</td></tr> <tr> <td>JS Installment Plan Processing Fee جے ایس انسٹالمنٹ پلان پر وسینگ فیس</td><td>Rs.1,000/- or 1% of booking amount whichever is higher 1,000/- روپے یا بکنگ کی رقم کا 1% ان دونوں میں سے جو بھی زیادہ ہو۔</td></tr> <tr> <td>JS Installment Plan Cancellation/ Pre adjustment Fee جے ایس انسٹالمنٹ پلان منسوخ / قبل از وقت ایڈجسٹمنٹ فیس</td><td>Rs.1,000/- or 5% of principal outstanding balance, whichever is higher 1,000/- روپے یا اصل واجب الادا بقایا رقم کا 5% ان دونوں میں سے جو بھی زیادہ ہو۔</td></tr> <tr> <td>Utility Bill Payment Fee یوٹیلیٹی بل کی ادائیگی کی فیس</td><td>Rs. 100/- per transaction ٹی ٹرانزیکشن - 100 روپے</td></tr> <tr> <td>Chip Maintenance Annual Fee چپ مینٹیننس کی سالانہ فیس</td><td>Rs.1,150/- 1,150 روپے</td></tr> <tr> <td>Issuance of Duplicate NOC ڈوپلیکیٹ این او سی (NOC) کے اجراء کی فیس</td><td>Signature: Rs. 1,000 per instance سگنچر: 1,000 روپے ہر بار</td></tr> <tr> <td>Physical Statement Fee (Optional) فزیکل اسٹیٹمنٹ فیس (اختیاری)</td><td>Signature: Rs. 3,000 per month سگنچر: 3,000 روپے ماہانہ</td></tr> </table>	Charge Type چارج کی نوعیت	Charge Amount چارج کی جانے والی رقم	Cash Advance Fee (per transaction) ہر ٹرانزیکشن پر کیش ایڈوانس فیس	3.5% or Rs. 1,800/- whichever is higher 1,800/- روپے یا 3.5% ان دونوں میں سے جو بھی زیادہ ہو۔	BTF/Cash on Call Processing Fee بیلنس ٹرانسفر سہولت / کیش آن کال پر وسینگ فیس	Rs. 1,000/- per transfer ہر ٹرانسفر پر 1000 روپے	International ATM/POS Transaction بین الاقوامی ایسے ٹی ایم / پی او ایس ٹرانزیکشن	Rs. 450/- or 5%, whichever is higher 450 روپے یا 5% ان دونوں میں سے جو بھی زیادہ ہو۔	SMS Alert Charges ایس ایم ایس الارٹ چارجز	Rs. 100/- per month 100 روپے ماہانہ	Over Limit Fee اوور لمٹ فیس	Rs. 1,500/- 1500 روپے	Cash Payment Fee کیش پیمنٹ فیس	Nil کوئی نہیں	Document Retrieval Charges دستاویز کی بازیابی کے چارجز	Local – Rs. 300/- International – Rs. 850/- مقامی: 300 روپے، بین الاقوامی: 850 روپے	Card Replacement Fee کارڈ تبدیلی کی فیس	Classic - Rs. 1,200/- Gold - Rs. 1,500/- Platinum - Rs. 2,000/- Signature - Rs. 4,000/- کلاسک: 1,200 روپے گولڈ: 1,500 روپے پلاٹینم: 2,000 روپے سگنچر: 4,000 روپے	VISA Arbitration Charges for Disputed Transactions متنازع ٹرانزیکشنز کے لیے ویزائٹیشن (Arbitration) کے چارجز	USD 500/- 500 امریکی ڈالر	Litigation Charges قانونی کارروائی کے چارجز	At Actual اصل چارجز	Credit Protector کریڈٹ پروٹیکٹر	0.58% of monthly outstanding balance (Optional) ماہانہ واجب الادا بقایا رقم کا 0.58% (اختیاری)	JS Installment Plan Processing Fee جے ایس انسٹالمنٹ پلان پر وسینگ فیس	Rs.1,000/- or 1% of booking amount whichever is higher 1,000/- روپے یا بکنگ کی رقم کا 1% ان دونوں میں سے جو بھی زیادہ ہو۔	JS Installment Plan Cancellation/ Pre adjustment Fee جے ایس انسٹالمنٹ پلان منسوخ / قبل از وقت ایڈجسٹمنٹ فیس	Rs.1,000/- or 5% of principal outstanding balance, whichever is higher 1,000/- روپے یا اصل واجب الادا بقایا رقم کا 5% ان دونوں میں سے جو بھی زیادہ ہو۔	Utility Bill Payment Fee یوٹیلیٹی بل کی ادائیگی کی فیس	Rs. 100/- per transaction ٹی ٹرانزیکشن - 100 روپے	Chip Maintenance Annual Fee چپ مینٹیننس کی سالانہ فیس	Rs.1,150/- 1,150 روپے	Issuance of Duplicate NOC ڈوپلیکیٹ این او سی (NOC) کے اجراء کی فیس	Signature: Rs. 1,000 per instance سگنچر: 1,000 روپے ہر بار	Physical Statement Fee (Optional) فزیکل اسٹیٹمنٹ فیس (اختیاری)	Signature: Rs. 3,000 per month سگنچر: 3,000 روپے ماہانہ
Charge Type چارج کی نوعیت	Charge Amount چارج کی جانے والی رقم																																				
Cash Advance Fee (per transaction) ہر ٹرانزیکشن پر کیش ایڈوانس فیس	3.5% or Rs. 1,800/- whichever is higher 1,800/- روپے یا 3.5% ان دونوں میں سے جو بھی زیادہ ہو۔																																				
BTF/Cash on Call Processing Fee بیلنس ٹرانسفر سہولت / کیش آن کال پر وسینگ فیس	Rs. 1,000/- per transfer ہر ٹرانسفر پر 1000 روپے																																				
International ATM/POS Transaction بین الاقوامی ایسے ٹی ایم / پی او ایس ٹرانزیکشن	Rs. 450/- or 5%, whichever is higher 450 روپے یا 5% ان دونوں میں سے جو بھی زیادہ ہو۔																																				
SMS Alert Charges ایس ایم ایس الارٹ چارجز	Rs. 100/- per month 100 روپے ماہانہ																																				
Over Limit Fee اوور لمٹ فیس	Rs. 1,500/- 1500 روپے																																				
Cash Payment Fee کیش پیمنٹ فیس	Nil کوئی نہیں																																				
Document Retrieval Charges دستاویز کی بازیابی کے چارجز	Local – Rs. 300/- International – Rs. 850/- مقامی: 300 روپے، بین الاقوامی: 850 روپے																																				
Card Replacement Fee کارڈ تبدیلی کی فیس	Classic - Rs. 1,200/- Gold - Rs. 1,500/- Platinum - Rs. 2,000/- Signature - Rs. 4,000/- کلاسک: 1,200 روپے گولڈ: 1,500 روپے پلاٹینم: 2,000 روپے سگنچر: 4,000 روپے																																				
VISA Arbitration Charges for Disputed Transactions متنازع ٹرانزیکشنز کے لیے ویزائٹیشن (Arbitration) کے چارجز	USD 500/- 500 امریکی ڈالر																																				
Litigation Charges قانونی کارروائی کے چارجز	At Actual اصل چارجز																																				
Credit Protector کریڈٹ پروٹیکٹر	0.58% of monthly outstanding balance (Optional) ماہانہ واجب الادا بقایا رقم کا 0.58% (اختیاری)																																				
JS Installment Plan Processing Fee جے ایس انسٹالمنٹ پلان پر وسینگ فیس	Rs.1,000/- or 1% of booking amount whichever is higher 1,000/- روپے یا بکنگ کی رقم کا 1% ان دونوں میں سے جو بھی زیادہ ہو۔																																				
JS Installment Plan Cancellation/ Pre adjustment Fee جے ایس انسٹالمنٹ پلان منسوخ / قبل از وقت ایڈجسٹمنٹ فیس	Rs.1,000/- or 5% of principal outstanding balance, whichever is higher 1,000/- روپے یا اصل واجب الادا بقایا رقم کا 5% ان دونوں میں سے جو بھی زیادہ ہو۔																																				
Utility Bill Payment Fee یوٹیلیٹی بل کی ادائیگی کی فیس	Rs. 100/- per transaction ٹی ٹرانزیکشن - 100 روپے																																				
Chip Maintenance Annual Fee چپ مینٹیننس کی سالانہ فیس	Rs.1,150/- 1,150 روپے																																				
Issuance of Duplicate NOC ڈوپلیکیٹ این او سی (NOC) کے اجراء کی فیس	Signature: Rs. 1,000 per instance سگنچر: 1,000 روپے ہر بار																																				
Physical Statement Fee (Optional) فزیکل اسٹیٹمنٹ فیس (اختیاری)	Signature: Rs. 3,000 per month سگنچر: 3,000 روپے ماہانہ																																				

Information معلومات	Explanation وضاحت										
Card Upgrade کارڈ اپ گریڈ	Gold – Rs. 1,500/- گولڈ: 1500 روپے	Platinum – Rs. 2500/- پلاٹینم: 2500 روپے	Signature – Rs. 5000/- سگنچر: 5000 روپے								
Charges چارجز	Following Charges are applied on your Credit Card in case of delayed or rejected payments: Charges are subject to change at the Bank's discretion, and are applied as per the prevailing Schedule of Charges. In addition to these charges, Government Levies and Taxes will also be recovered including Sales Tax/FED. A complete list of all charges applicable on your credit card is available in the prevailing Schedule of Bank Charges. اور ایجی میں تاخیر یا ادا ایجی مسز و ہونے کی صورت میں آپ کے کریڈٹ کارڈ پر درج ذیل چارجز لاگو ہوں گے: بینک کی صوابدید کے مطابق ان چارجز میں تبدیلی کی جاسکتی ہے، اور ان کا اطلاق مروجہ شیڈول آف چارجز کے مطابق ہوگا۔ ان چارجز کے علاوہ حکومتی محصولات اور ٹیکسز، بشمول سیلز ٹیکس/فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی وصول کیے جائیں گے۔ آپ کے کریڈٹ کارڈ پر لاگو تمام چارجز کی مکمل فہرست بینک کے مروجہ شیڈول آف چارجز میں دستیاب ہے۔ <table><tr><th>Charge Type چارجز کی نوعیت</th><th>Charge Amount چارج شدہ رقم</th></tr><tr><td>Late Payment Charges لیٹ پیمنٹ چارجز</td><td>Rs. 2,400/- or 10% of minimum amount, whichever is higher 2,400/- روپے یا کم از کم واجب الادا رقم کا 10%، ان دونوں میں سے جو بھی زیادہ ہو۔</td></tr><tr><td>Returned Cheque Charges چیک ریٹرن ہونے کے چارجز</td><td>Rs. 1,400/- 1400/- روپے</td></tr><tr><td>Autopay Rejection Fee آٹوپے ریجکشن فیس</td><td>Rs. 2,000/- 2000/- روپے</td></tr></table>			Charge Type چارجز کی نوعیت	Charge Amount چارج شدہ رقم	Late Payment Charges لیٹ پیمنٹ چارجز	Rs. 2,400/- or 10% of minimum amount, whichever is higher 2,400/- روپے یا کم از کم واجب الادا رقم کا 10%، ان دونوں میں سے جو بھی زیادہ ہو۔	Returned Cheque Charges چیک ریٹرن ہونے کے چارجز	Rs. 1,400/- 1400/- روپے	Autopay Rejection Fee آٹوپے ریجکشن فیس	Rs. 2,000/- 2000/- روپے
	Charge Type چارجز کی نوعیت	Charge Amount چارج شدہ رقم									
Late Payment Charges لیٹ پیمنٹ چارجز	Rs. 2,400/- or 10% of minimum amount, whichever is higher 2,400/- روپے یا کم از کم واجب الادا رقم کا 10%، ان دونوں میں سے جو بھی زیادہ ہو۔										
Returned Cheque Charges چیک ریٹرن ہونے کے چارجز	Rs. 1,400/- 1400/- روپے										
Autopay Rejection Fee آٹوپے ریجکشن فیس	Rs. 2,000/- 2000/- روپے										
Default Charges ڈیفالٹ چارجز	Charges are subject to change at the Bank's discretion, and are applied as per the prevailing Schedule of Charges. In addition to these charges, Government Levies and Taxes will also be recovered including Sales Tax/FED. A complete list of all charges applicable on your credit card is available in the prevailing Schedule of Bank Charges. چارجز میں بینک کی صوابدید کے مطابق تبدیلی کی جاسکتی ہے، اور ان کا اطلاق مروجہ شیڈول آف چارجز کے مطابق ہوگا۔ ان چارجز کے علاوہ حکومتی محصولات اور ٹیکسز، بشمول سیلز ٹیکس/فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی وصول کیے جائیں گے۔ آپ کے کریڈٹ کارڈ پر لاگو تمام چارجز کی مکمل فہرست بینک کے مروجہ شیڈول آف چارجز میں دستیاب ہے۔										
Expiry تاریخ اختتام	Expiry date is mentioned on the back of your Credit Card. میعاد کے اختتام کی تاریخ آپ کے کریڈٹ کارڈ کے پچھلے حصے پر درج ہے۔										
Excess Over Limit (Optional) اضافی اوور لمٹ (اختیاری)	5% of total limit ☐ Yes ☐ No کل کریڈٹ حد کا 5 فیصد ہاں نہیں										
Insurance Coverage (Optional) انشورنس کوریج (اختیاری)	JS Bank Credit Card is offered with Credit Protector facility, underwritten by EFU Life Assurance Limited. The Credit Protector facility is provided to cardholders in accordance with the Bancassurance Agreement & Master Policy issued by EFU Life. Customers are required to provide their consent in the application form. For details please refer to the Credit Protector Disclosure Agreement. جے ایس بینک کریڈٹ کارڈ کے ساتھ کریڈٹ پروٹیکٹر سہولت فراہم کی جاتی ہے، جس کا بیمہ ای ایف یو لائف انشورنس لمیٹڈ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یہ سہولت ای ایف یو لائف کی جانب سے جاری کردہ بینک انشورنس معاہدے اور ماسٹر پالیسی کے مطابق کارڈ ہولڈرز کو فراہم کی جاتی ہے۔ صارفین کے لیے درخواست فارم میں اپنی رضامندی دینا ضروری ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے کریڈٹ پروٹیکٹر ڈسکلوژر ایگریمنٹ ملاحظہ فرمائیں۔										

Information معلومات	Explanation وضاحت
Insurance Coverage (Optional) انشورنس کوریج (اختیاری)	Credit Protector covers cardholder's outstanding balance in the unfortunate event of accidental death or permanent disability. Further, it provides an equal sum of money to card holders or their beneficiaries. JS Bank acts as distributor for this coverage. This coverage costs 0.58% of the statement outstanding balance per month. کریڈٹ پروٹیکٹر، حادثاتی وفات یا مستقل معذوری کی صورت میں کارڈ ہولڈر کے واجب الادا بقیات جات کے لیے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، کارڈ ہولڈر یا اس کے نامزد مستحقین کو اسی مالیت کی اضافی رقم بھی ادا کی جاتی ہے۔ جے ایس بینک اس تحفظ کے لیے بطور ڈسٹری بیوٹر خدمات انجام دیتا ہے۔ اس سہولت کی لاگت ماہانہ اسٹیٹمنٹ میں درج واجب الادا بقیات رقم کا 0.58% ہے۔
Bureau Reporting بیورو رپورٹنگ	SBP requires all banks and financial institutions to report all loans and advances to the Credit Bureau. In case of non-payment, overdue, written off loan or late payment, the bureau report will reflect negative credit history, which may adversely affect borrower's credit worthiness for future. اسٹیٹ بینک آف پاکستان (SBP) کی ہدایت کے مطابق تمام بینکوں اور مالیاتی اداروں کے لیے لازم ہے کہ وہ تمام قرضوں اور مالی سہولیات کی تفصیلات کریڈٹ بیورو کو رپورٹ کریں۔ ادائیگی نہ ہونے، واجبات کی مقررہ مدت سے تجاوز، قرض کے رائٹ آف (Write-off) یا تاخیر سے ادائیگی کی صورت میں کریڈٹ بیورو کی رپورٹ میں منفی کریڈٹ ہسٹری درج ہوگی، جو مستقبل میں قرض لینے والے کی کریڈٹ اہلیت کو متاثر کر سکتی ہے۔

For Priority Banking, please refer to the relevant SOC/KFS.

For more information, reach out to us through any of our customer touchpoints:

Phone: (021/051) 111-654-321

For Private Banking assistance,

Call: 0800-000-10

Email: ccu.helpdesk@jsbl.com

SBP Sunwai Portal: sunwai.sbp.org.pk/

WhatsApp: +92-348-700-3000 to connect with JS Bot

Website: www.jsbl.com

پرائیوریٹی بینکنگ کے لیے متعلقہ شیڈول آف چارجز: SOC /

اہم معلوماتی بیان (KFS) سے رجوع کریں۔

مزید معلومات کے لیے ہمارے کسی بھی کسٹمر رابطہ ذرائع سے ہم سے رابطہ کریں

فون: (021/051) 111-654-321

پرائیویٹ بینکنگ سے متعلق معاونت کے لیے

کال کریں 0800-000-10

ای میل: ccu.helpdesk@jsbl.com

ایس بی پی سنوائی پورٹل: sunwai.sbp.org.pk/

واٹس ایپ: +92-348-700-3000 جے ایس بوت سے رابطہ کرنے کے لیے

ویب سائٹ: www.jsbl.com

Customer's Signature & Date

صارف کے دستخط اور تاریخ

Bank's Staff Signature & Date

بینک عملے کے دستخط اور تاریخ